

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ

ہرگز نہیں تم پاسکتے نیکی کو

حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تِحْبُّونَ

یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

اور جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ^{⑨2}

تو بے شک اللہ اسے خوب جانے والا ہے

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ

ہر کھانا تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے

إِلَّا مَا حَرَمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ

مگر جو حرام کیا اپنے نفس پر اسرائیل نے

مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ

اس سے پہلے کہ نازل کی جاتی تورات

قُلْ فَأُتُوا بِالْتَّوْرَاةِ فَاتُلوْهَا

کہہ دیجیے پس لے آؤ تو رات کو پھر پڑھوادے

إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ^{٩٣}

اگر پچھے ہوتم

فَيْنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ مِنْ بَعْدِ ذُلْكَ
تو جو کوئی گھر لے اللہ پر جھوٹ بعد اس کے

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٤﴾
تو یہی لوگ ہیں وہ جو ظالم ہیں

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ
کہہ دیجیے اللہ نے سچ فرمایا

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
تو پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھا

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾
اور نہ تھا وہ مشرکین میں سے

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لَكَذِبَةً

بے شک پہلا گھر لوگوں کے لیے یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے

مُبَرَّغًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ^{⑨٦}

مبارک/بابرکت تمام جہانوں کے لیے اور ہدایت ہے

فِيهِ

اس میں

مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ

ابراهیم ہے

مقام

أَيْمَنٌ بِسِنْتٌ

واضح

نشانیاں ہیں

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا

امن والا دخل ہوا اس میں وہ ہو گیا اور جو کوئی

وَإِلَهٌ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

اور اللہ ہی کے لیے اوپر لوگوں کے حج کرنا ہے بیت اللہ کا

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

جو کوئی استطاعت رکھتا ہو طرف اس کے راستے کی

وَمَنْ كَفَرَ

اور جو کوئی کفر کرے

فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ^{⑨٧}

تو بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے تمام جہانوں سے

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ

کہہ دیجیے اے اہل کتاب

لِمَ تَكْفُرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ

کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا

وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ⁹⁸

اور اللہ خوب گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ

کہہ دیجیے اے اہل کتاب

لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

کیوں تم روکتے / پھیرتے ہو اللہ کے راستے سے

مَنْ أَمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَاجًا

اسے جو ایمان لایا تم تلاش کرتے ہو اس میں طیڑھاپن / کجی

وَإِنْتُمْ شُهَدَاءُ

حالانکہ تم گواہ ہو

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنَّا تَعْمَلُونَ⁹⁹

اور نہیں ہے اللہ غافل تم عمل کرتے ہو اس سے جو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اے لوگو جو ایمان لائے ہو

إِنْ تُطِيعُوا فِرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

اگر تم اطاعت کرو گے ایک گروہ کی

ان میں سے جو دیئے گئے کتاب

يَرْدُدُوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفَّارِبْنَ^{⑩0}

وہ پھر دیس گے تمہیں بعد تمہارے ایمان کے کافر (بنाकر)

وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ

اور کیسے تم کفر کرتے ہو

وَ أَنْتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ أَيْتُ اللَّهُ

حالانکہ تم پڑھی جاتی ہیں تم پر آیات اللہ کی

وَ فِيهِمْ رَسُولُهُ

اور تم میں ہے رسول اس کا

وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ

اور جو تھام لے اللہ کو

فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صَرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ^{⑩1}

تو تحقیق وہ ہدایت دے دیا گیا طرف راستے سیدھے کے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ایمان لائے ہو

اے لوگو جو

اتَّقُوا اللَّهَ حَقًّا تُفْتَهُ

ڈرو اللہ سے (جیسے) حق ہے اس سے ڈرنے کا

وَلَا تَهُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ⑩٢

مسلمان ہو

اس حال میں کتم

مگر

اور ہرگز نہ تم مرتا

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا

اور مضبوطی سے پکڑلو اللہ کی رسمی کو سب کے سب

وَلَا تَفَرَّقُوا

اور نہ تم فرقہ فرقہ بنو

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً

اور یاد کرو نعمت کو اللہ کی اپنے اوپر جب تھم دشمن

فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

تو اس نے الفت ڈال دی درمیان تمہارے دلوں کے

فَاصْبَحُوكُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

تو ہو گئے تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی

وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ

اور تھم کنارے پر گڑھے کے آگ کے

فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا

تو اس نے بچالیا تمہیں اس سے

كَذِلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ

اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات اپنی

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑩٣

تاکہ تم تم ہدایت پاؤ

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ

اور ضرور ہو تم میں سے ایک گروہ (کے لوگ)

وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ

اور جو روکیں برائی سے

وَيَا مُرْوَنَ بِالْمَعْرُوفِ

اور جو حکم دیں نیکی کا

يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ

جود گوت دیں طرف خیر کے

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ^{⑩4}

اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں وہ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا

اور نہ ان کی طرح جو فرقہ فرقہ بن گئے تم ہو جانا

وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

اور انہوں نے اختلاف کیا آگئیں ان کے پاس واضح شانیاں بعد اس کے جو

وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ^{⑩5}

اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا

یوْمَ

جس دن

وَتَسْوِدُ
وْجُوهًا

پچھے چہرے
اور سیاہ ہوں گے

تَبَيَّضُ
وْجُوهًا

پچھے چہرے
روشن ہوں گے

فَآمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ

تور ہے وہ لوگ جو سیاہ ہوں گے چہرے جن کے

أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

کیا کفر کیا تم نے بعد اپنے ایمان کے

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ^{⑩٦}

پس چکھو عذاب کو بوجہ اس کے جو تھم تم کفر کرتے

وَآمَّا الَّذِينَ ابْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ

اور ہے وہ جو سفید ہوں گے چہرے جن کے

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

تور حمت میں ہوں گے اللہ کی

هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ^{⑩٧}

وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں

تِلْكَ آيَتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ
یہ آیات ہیں اللہ کی ہم پڑھ رہے ہیں انہیں ساتھ میں کے آپ پر

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَلَمِينَ^{⑩۸}
اور نہیں اللہ ارادہ رکھتا کسی ظلم کا جہان والوں کے لیے

وَإِلَهٌ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین میں ہے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ^{⑩۹}
اور طرف اللہ ہی کے لوٹائے جاتے ہیں سب کام

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ

ہوم ہترین امت

أَخْرَجَتِ لِلنَّاسِ

نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے

وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

منکر/ برائی سے اور تم روکتے ہو

تَأْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

معروف/ اچھائی کا تم حکم دیتے ہو

وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر

وَ لَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب اہل کتاب ایمان لاتے ایمان لاتے ایمان لاتے

مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَ آكْثُرُهُمُ الْفَسِقُونَ⁽¹¹⁰⁾

بعض ان کے مون ہیں اور اکثر ان کے فاسق ہیں

لَنْ يَضْرُوكُمْ إِلَّا أذْيَ

ہرگز نہیں وہ نقصان دیں گے تمہیں اذیت کے سوائے

وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الْأَدْبَارَ

اور اگر وہ جنگ کریں گے تم سے وہ پھیر دیں تم سے پشتیں

ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ⑪

پھر نہ وہ مدد کیے جائیں گے

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا

ماردی گئی ان پر ذلت جہاں کہیں وہ پائے گئے

إِلَّا بِحُبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحْبُلٍ مِّنَ النَّاسِ

گر ساتھ رہی (تعلق) کے اللہ کی لوگوں کی اور ری (تعلق) کے

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةُ

محتجی ان پر اور ماردی گئی

وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ

اور وہ لوٹے ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

بوجہ اس کے کہ وہ یہ

وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ

نبیوں کو اور وہ قتل کرتے

كَانُوا يَكْفُرُونَ بِأُيُّتِ اللَّهِ

اللہ کی آیات کا وہ کفر کرتے تھے وہ

بِغَيْرِ حَقٍّ

بغیر حق کے

ذَلِكَ بِمَا كَانُوا يَعْتَدُونَ ⑯

بوجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ وہ حد سے بڑھ جاتے یہ

لَيْسُوا سَوَاءً

نہیں ہیں وہ سب یکساں / برابر

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَاتِلَةٌ

اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے جو قاتم ہے (حق پر)

يَتَلَوُونَ إِيمَانَ اللَّهِ أَنَاءَ الَّيلِ

وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی گھٹریوں میں رات کی

وَهُمْ يَسْجُدُونَ ⑯

اور وہ وہ سجدہ کرتے ہیں

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اور آخری دن پر

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر

وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ

اور وہ روکتے ہیں برائی سے

وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

اور وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا

وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرِ

اور وہ ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں

وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ⑯

اور یہی لوگ ہیں صالحین میں سے

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفِرُوهُ

اور جو بھی وہ کریں گے اس کی
بھلائی میں سے تو ہرگز نہیں کیے جائیں گے اس کی

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ⁽¹¹⁵⁾

اور اللہ خوب جانے والا ہے متقیٰ لوگوں کو

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

بے شک کفر کیا وہ جنہوں نے

كُنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ

ہرگز نہیں کام آئیں گے انہیں

أَوْلَادُهُمْ

اولاد ان کی

وَلَا

اور نہ

أَمْوَالُهُمْ

مال ان کے

مِنَ اللَّهِ شَيْعًا

اللہ سے کچھ بھی

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

اور یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے

هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ⁽¹¹⁶⁾

وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الَّتِي

دنیا کی

اس زندگی میں

وہ خرچ کرتے ہیں

مثال

كَمَثَلِ رِبْعٍ فِيهَا صَرْ

مانند مثال ہوا کے ہے جس میں سخت سردی ہو

أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلْمًا أَنْفُسَهُمْ

وہ پہنچے کھنکتی کو ایک قوم کی جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر

فَآهُلَكَتْهُ

تو اس نے ہلاک کر دیا اسے

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ

اور نہیں خلما کیا ان پر اللہ نے

وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ⁽¹¹⁷⁾

اور لیکن اپنے ہی نفسوں پر وہ خلما کرتے تھے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ایمان لائے ہو

اے لوگو جو

لَا تَتَخَذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ

اپنے علاوہ کو

دلی دوست/ راز دان

نہ تم بناؤ

لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا

نہ وہ کمی کریں گے تم سے
کسی خرابی کی

وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ

وہ دل سے چاہتے ہیں کہ مشکل میں پڑو تم

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ

ان کے مونہوں سے

بعض

ظاہر ہو گیا

تحقیق

وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

زیادہ بڑا ہے

سینے ان کے

اور جو چھپاتے ہیں

قَدْ بَيَّنَاهُ لَكُمُ الْآيَاتِ

تحقیق واضح کر دیں ہم نے تمہارے لیے نشانیاں

إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ⑯

تم عقل رکھتے

ہوتم

اگر

آهَانْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ

خبردار تم وہ لوگ ہو تم محبت رکھتے ہو ان سے

وَلَا يُحِبُّونَكُمْ

اور نہیں وہ محبت رکھتے تم سے

وَتُؤْمِنُونَ بِاِنْكِتَبِ كُلِّهِ

او تم ایمان رکھتے ہو کتاب پر ساری کی ساری

وَإِذَا خَلَوْا

او جب وہ تنہا ہوتے ہیں

لَقُوْكُمْ

او جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے

عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَاءِ مَلَ

انگلیاں

تم پر

وہ کاٹتے ہیں

قَالُوا أَمَنَا

وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم

مِنَ الْغَيْظِ

غضے سے

قُلْ مُوْتُوا بِغَيْظِكُمْ

کہہ دیجیے ساتھ اپنے غصے کے مرجاجہ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

بے شک اللہ خوب جانے والا ہے سینوں والے (بھیڑ)

إِنْ تَمْسِكُمْ حَسَنَةٌ تَسْوِهُمْ

اگر کوئی بھلانی وہ بڑی لگتی ہے انہیں پہنچتے ہیں

وَإِنْ تُصِبُّكُمْ سَيِّعَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا

اور اگر کوئی برائی وہ خوش ہوتے ہیں اس پر پہنچتے ہے انہیں

لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

نہ فCHAN دے گی ان کی کچھ بھی

وَإِنْ تَصِرُّوا وَتَتَقْوُا

اور اگر تم صبر کرو تم تقوی کرو

إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

بے شک اللہ اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا ہے

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ

اور جب صح سویرے نکلے آپ اپنے گھروالوں سے

مَقَاعِدَ الْقِتَالِ

ٹھکانوں / مورچوں پر جنگ کے لیے

تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ

آپ متعین کر رہے تھے مومنوں کو

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^⑯

اور اللہ خوب سننے والا ہے خوب جانے والا ہے

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتِنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشِلَا

جب ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں

وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا

اور اللہ مدگار تھا ان دونوں کا

وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ^⑰

اور اللہ ہی پر ایمان والے پس چاہیے کہ توکل کریں

وَلَقَدْ نَصَرْكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذْلَلُهُ
اور البتة تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے حالانکہ تم بدر میں کمزور تھے

فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ^{⑯۲۳}
پس ڈرو اللہ سے تم شکر ادا کرو تم تاکہ تم

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ
جب آپ کہ رہے تھے مومنوں کو

أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمْدَدَّكُمْ رَبُّكُمْ
کیا نہیں کافی ہو گا تمہاری رب تمہارا کہ مدد کرے تمہاری

بِثَلَاثَةِ الْفِيَ مِنَ الْمَلِئَكَةِ مُنْزَلِيْنَ^{⑯۲۴}
ساتھ تین ہزار فرشتوں کے اتارے ہوئے

بَلْ

کیوں نہیں / بلکہ

إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا

اگر تم صبر کرو گے اور تم تقوی کرو گے

وَيَا أَيُّوبُ كُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هُذَا

اور وہ آئیں تمہارے پاس اس طرح اپنے جوش سے

يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ الْفِيْ مِنَ الْبَلِيْكَةِ مُسَوِّمِيْنَ¹²⁵

مد کرے گا تمہاری رب تمہارا نشان لگانے والے ساتھ پانچ ہزار فرشتوں کے